

نیویارک شہر کے طلباء، خاندانوں اور عملے کی صحت اور بہبود محکمہء تعلیم کے لیے اہم ترجیحات ہیں، اور ہم آپ کے علاقے میں میزلز کے کیسز کے حالیہ اضافے کے بارے میں اہم معلومات بانٹنا چاہتے ہیں۔ 9 اپریل کو ہیلتھ کمشنر نے ہر بالغ اور بچے کو جو زپ کوڈز 11205, 11206, 11211 اور 11249 میں رہتے ہیں اور میزلز، ممپس اور روبیلا (MMR) کی ویکسین موصول نہیں کی ہے، ویکسین لگوانے کا (PDF) [ordered](#) حکم دیا ہے۔ مدافعتی ٹیکے میزلز سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ہر کوئی شخص جس نے MMR کی دو خوراکیں موصول کی ہیں انہیں یہ انفیکشن لگنے کا امکان نہیں ہے۔

بطور ایک یاد دہانی کے، نیویارک ریاست عوامی صحت قانون پبلک اسکولوں میں شرکت کرنے کے لیے تمام طلباء سے، ماسوا ان کے جن کے پاس منظور کردہ اسٹڈی ہے، مدافعتی ٹیکے لگوانا یا میزلز کے خلاف مدافعت کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ آپ [school immunization requirements here](#) پر اسکول کے مدافعتی ٹیکوں کے مطلوبات دیکھ سکتے ہیں یا www.nyc.gov پر جائیں اور "immunization requirements" مدافعتی ٹیکوں کے مطلوبات تلاش کریں۔

میزلز ایک وائرس کی انفیکشن ہے جس سے بخار اور دانے ہوتے ہیں۔ اس انفیکشن سے پیچیدگیوں میں نمونیہ، دماغی سوزش، ہسپتال میں داخلہ اور ممکنہ موت شامل ہیں۔ یہ انتہائی متعدی مرض ہے اور کوئی بھی جن کو اس وائرس کے خلاف ٹیکے نہیں لگے ہیں انہیں یہ کسی بھی عمر میں لگ سکتی ہے۔

ہم آپ کی یہ یقینی بنانے کے حوصلہ افزائی کریں گے کہ خاندان کے تمام افراد کو میزلز کے خلاف ٹیکے لگے ہوں۔ اگر آپ اپنے بچے کے مدافعتی ٹیکوں کے بارے میں غیر یقینی ہیں، اپنے بچے کے طبی فراہم کنندہ سے یہ تصدیق کرنے کے لیے رابطہ کریں کہ ان کے مناسب ٹیکے لگے ہوئے ہیں یا وہ میزلز کے خلاف قوتِ مدافعت رکھتے ہیں۔ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ خاندان کس طرح مدافعتی ٹیکے لگوا سکتے ہیں [immunization clinic](#) پر جائیں یا 311 کو فون کریں۔

اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو برائے مہربانی earlychildhoodpolicy@schools.nyc.gov سے رابطہ کریں۔

آپ کا شکریہ۔

محکمہ تعلیم شعبہ برائے ابتدائی طفلی تعلیم

